

47103 - والد سے لی گئی رقم سے زیادہ ادائیگی کرنے کا حکم

سوال

میں اپنی جیب سے والد کی ضروریات پوری کرتا ہوں، مثلاً ایک سو پچاس ریال، اور میری اس میں نیت صدقہ کی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات والد صاحب مجھے دو سو ریال دیتے اور کہتے ہیں کہ تو اپنی جیب سے مت ادا کیا کر، تو کیا جب مجھے وہ دو سو ریال دیں تو کیا یہ سود شمار ہو گا ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

والدین کے ساتھ حسن سلوک جنت میں داخل ہونے کا سب سے بڑا سبب ہے، افسوس ہے اس شخص کے لیے اور نقصان و خسارہ ہے اس شخص کا جس نے اپنی زندگی میں والدین میں سے کسی ایک کو پا لیا اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی جیسا جنت میں داخل ہونے والے سبب پر عمل پیرا نہ ہو سکے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

" اس شخص کا ناک خاک میں ملے اور وہ ذلیل و رسوا ہو، پھر اس شخص کا ناک خاک میں ملے اور وہ ذلیل و رسوا ہو، پھر اس شخص کا ناک خاک میں ملے اور وہ ذلیل و رسوا ہو، پھر اس شخص کا ناک خاک میں ملے اور وہ ذلیل و رسوا ہو، آپ سے عرض کیا گیا: اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ؟

تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا "

صحیح مسلم حدیث نمبر (2551) .

مزید تفصیل دیکھنے کے لیے آپ سوال نمبر (22782) اور (5326) کے جواب کا مطالعہ کریں.

نیکی و بھلائی کے راستوں میں جن میں انسان اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرتا ہے والدین پر اپنا مال خرچ کر کے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کرنا بھی شامل ہے، اور ایسا کرنے سے آپ کو ان شاء اللہ صدقہ کا اجر و ثواب حاصل ہوگا.

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

" جب مرد اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے اور اس میں وہ اجرو ثواب کی نیت کرتا ہے تو اسے صدقہ کا اجرو ثواب حاصل ہوتا ہے "

صحیح بخاری حدیث نمبر (55) .

رہا آپ کا یہ سوال کہ جب آپ اپنے والد کے لیے اس کی ضروریات ایک سو پچاس ریال کی خریدیں اور وہ آپ کو دو سو ریال دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، آپ نے جو خرچ کیا ہے اس سے جو زائد رقم ہے وہ اس نے آپ کو دی ہے، اور اس مسئلہ میں سود کا کوئی وجود نہیں، بلکہ باپ اور بیٹے کے مابین تو سود کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، ان شاء اللہ آپ دونوں خیر و بھلائی پر ہیں .

آپ نے والد کی ضروریات کی قیمت اپنی طرف سے ادا کرنا چاہی اور وہ آپ کو اس سے زیادہ رقم ویسے ہی دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ وہ آپ دونوں کو اجرو ثواب سے نوازے، اور آپ دونوں کے مال میں برکت عطا فرمائے .

واللہ اعلم .